

3760 - اگر عورت مرد سے زیادہ حافظ قرآن ہو تو عورت کی امامت کا مسئلہ

سوال

اگر بیوی خاوند سے زیادہ قرآن مجید کی حافظہ ہو تو پھر نماز میں امامت کون کرائے گا؟ جسے قرآن زیادہ حفظ ہے یا کہ مرد؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب "المحلی بالآثار" میں کہتے ہیں:

مسئلہ:

یہ جائز نہیں کہ عورت مرد کی امامت کرائے، اور نہ ہی زیادہ مردوں کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ عورت اگر مرد کے آگے سے گزر جائے تو مرد کی نماز توڑ دیتی ہے، ہم اس کا ذکر اس کے بعد ان شاء اللہ اس کے باب میں بیان کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "امام ڈھال ہے" اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ مرد کے پیچھے ہو اور خاص کر نماز میں، اور امام کا مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا ضروری ہے، یا پھر مقتدی کے ساتھ ایک ہی صف میں اس کا ذکر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر آئے گا۔ ان نصوص سے عورت کا مرد کی امامت کرانا باطل ثابت ہوتا ہے، اور ایک سے زیادہ مردوں کی امامت کروانا تو یقیناً باطل ہو گی۔

دیکھیں: المحلی ابن حزم جلد دوم صلاة الجماعة.

اور علی بن سلیمان المرادوی حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

قولہ: "ولا تصح امامة المرأة للرجل"

اور عورت کا مرد کی امامت کروانا صحیح نہیں.

یہ مطلقاً مذہب ہے.

دیکھیں: کتاب الانصاف جلد دوم باب صلاة الجماعة

والله اعلم .